



ابا جان! آپ نے تو رسول اللہ ﷺ، ابوبکر رضی اللہ عنہ،
عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور یہاں کوفہ میں علی
رضی اللہ عنہ کے پیچھے تقریباً پانچ سال تک نماز پڑھی کی
و لوگ فجر کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے
جواب دیا کہ میرے بیٹے! یہ (دین میں) ایک نئی ایجاد کردہ شے
ہے

ہے

ابو مالک اشجعی سعد بن طارق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے
پوچھا کہ ابا جان! آپ نے تو رسول اللہ ﷺ، ابوبکر، عمر، عثمان اور یہاں کوفہ میں علی رضی اللہ عنہم
کے پیچھے تقریباً پانچ سال تک نماز پڑھی کی و لوگ فجر کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے
جواب دیا کہ میرے بیٹے! یہ (دین میں) ایک نئی ایجاد کردہ بات ہے

[صحیح] [اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے - اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

حدیث شریف میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز فجر میں کسی خاص ناگہانی مصیبت کے بغیر دعائے قنوت پڑھنا
بدعت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وتر کے علاوہ آپ کسی نماز میں دعائے قنوت نہیں
پڑھا کرتے تھے سوائے اس کے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آجائے اس صورت میں تمام نمازی ساری نمازوں
میں قنوت پڑھا کرتے تھے بطور خاص فجر اور مغرب کی نماز میں، جو بھی صورت اس مصیبت کے مناسب ہوتی
تھی جو شخص سنت میں غور و فکر کرے گا اسے قطعی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ نبی ﷺ نے نمازوں میں دائمی
طور پر دعائے قنوت نہیں پڑھی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10935>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

